

ہر شخص نے ابک دن مرجانا ہے دامنی زندگی صرف خدا کے لئے ہے  
انسان کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ برا بن کر رینے کی بجائے عدوی  
سے مرجانے۔ اگر ہم آج میران جنگ میں شہید ہو  
جاتے ہیں تو ہم سچے اور نیک انسان کی صورت میں ہو  
اگر ہم زندہ رہ جاتے ہیں تو عنازی کیلانیں گے۔  
آؤ! ہم قرآن پر باتھ رکھ کر یہ وعدہ کروں کہ ہم میں سے  
جب تک کوئی زندہ ہے میران جنگ سے نہیں کھاڑے۔

### Translation:

Every person has to die one day!  
Eternal life is only for God. It is better  
for human to die decently than to live as  
a vile. If we get martyred in the battlefield  
today, then we shall die as a true and pious  
man; and if we stay alive, then we shall be  
called as Ghazi. let us promise by putting our  
hand on Quran that none of us will run  
out of the battlefield as long as he is alive.

پر اگراف نمبر 5: تم اسے دوربین کے دوسرے سرے سے دیکھتے ہو جہاں سے انسانی چہرے، عورت ہوں یا مرد تھوڑے فاصلے سے بڑے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور جب تو ان کے ساتھ گھلتا ملتا ہے تو کافی کچھ جانتا ہے اور ان پر کی ہوئی ملجم کاری بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بعد میں پڑھتا ہے کہ یہ تو خاک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو اس طرح کے نمائشی پیار میں بتلا ہوتا ہے وہ تو صرف اور صرف نندی بھرے تالاب میں گردن کے بل چھلانگ لگانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ ایک ایسے تالاب میں چھلانگ لگاتا ہے جہاں سے پیچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور نتیجے کے طور پر وہ شخص مٹ جاتا ہے۔ connihi late

You see him with the other end of telescope from where human faces, of women or men, look very beautiful from small distance; and when you amalgamate with them, then you get to know very much and the counterfeiting fabricated on them becomes absolutely clear. later it is realized that it is nothing more than dust. The one who falls in this kind of beguile love does nothing other than to merely jump on neck in pond full of filth. He jumps into such a pond where there is no way to escape, and as a result that person annihilates.

شاہ جہاں نے سب سے زیادہ باغات اور مساجد تعمیر کیں۔ اس کی بنائی  
دیوبنی شاندار عمارت میں دہلی کی "جامع مسجد" ابھی تک ہر ایک سے  
داد و تحسین وصول کر دیتی ہے اور مغلیہ گم کی مددگاری کا منہ  
بلاتاشیوت ہے۔ یہ تکونی اور علوی حصوں سے مل کر تی  
سرخی پڑ جو دہلیان سے مرتبہ ہیں تاکہ اظہار کے تین  
 مختلف سطحوار حصوں کو تین مختلف بینامات  
یا مصلح بینامات میں کھا کر

Shah Jahan constructed more gardens and mosques than any of the others. Among many splendid buildings which he planned, Jam-e-Masjid of Dehli is still being applauded by everyone as the finest example of Mughal work. It is made by the combination vertical triangular sections which bend at intervals so that the three different sequential sections of expression can be seen in three different messages or continuous messages.

پہنچنا نقاب ہے جو تم نے پہن رکھا ہے۔ تمہارا جھرو بالکل عرضہ  
ہے۔ کیا سفید جھرو خوبصورتی کی علامت ہے؟ نہیں،  
نہیں، تم مجھے دھوکا نہیں دے سکتیں۔ اگرچہ میں یہ مردی بھی  
ہی سمجھی۔ انسانی شکل جب پروردگار کے ہاتھوں سے بن  
کر آتی ہے تو یہ اپنی خوبصورتی میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ تمام  
مردگی کی خوبصورتی، شرافت اور دلکشی کا نمونہ ہوئی ہے۔  
جسے اس بات میں ذرا سما۔ یہی سنگ نہیں کہ خدا ان انسان  
کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کے جسم کو اس کی  
روح کی کامل آمادگاہ بنایا ہے۔ وہ جس نے تمام چیزوں  
کو تباہیت خوبصورتی سے بنایا ہے اس نے اپنے شاپکار  
خون پارے کو واقعہ تا سب سے زیادہ خوبصورتی دی ہے  
گی۔۔۔ کیا خوبصورتی محض جسمانی دلکشی، دلیلِ دول،  
چال، نین، نقش اور سفید جلد میں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں!  
یہ زندگی اور اس روح میں لکھی ہوئی ہے جو طبیعتی  
آنکھوں کی کھترکیوں سے جھانکتی ہے۔ میں اعلوں جسم  
میں بے دلائے اور بیتھیں روح رکھنی چاہیے۔

14) It is a filthy cloak that you are wearing.  
Your face looks very unnatural. Is fair face  
a sign of beauty? No, no, you can not deceive  
me, though uncivilized I am. When the Lord  
creates human face, it is perfect in its  
beauty. It is an embodiment of all <sup>that is</sup> fineness,  
beauty, decency and charm. I have no doubt  
that God has created <sup>human</sup> according to His  
nature and made his body a perfect temple  
of his soul. He, Who has made all things  
very beautifully, will have definitely given  
his masterpiece the greatest beauty... Is

beauty merely in physical attractiveness, figure, body language, <sup>physical</sup> features and white skin? It is in life and this soul that is clear from your eyes. You should have the best stainless soul in magnificent body.

پیراگراف نمبر 17: جب ٹیلی دیڑن پہلی بار قومی منظر پر آیا تو بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اب ریڈیو کا بیڑا غرق ہو گیا اور واقعتاً کچھ وقت کیلئے ریڈیو کے سامنے نے نئے نشریاتی میڈیم کے چاؤ میں اسے یکسر بھلا دیا۔ لیکن آج ریڈیو پہلے کی نسبت کافی بہتر حالت میں ہے اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ریڈیونفیاتی لحاظ سے ٹی دی سے مختلف ہے۔ وہ تصور یا خیال ہے ایک ناظری وی سکرین پر دیکھتا ہے مختصر آدھ تصور یا نقش ہی نہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔

When the television appeared on the national scene for the first time, then many people thought radio was doomed and certainly listeners of radio completely forgot it <sup>for some time</sup> in fondness for new broadcasting medium. But today radio is in much better condition than before and progress is being made <sup>in it</sup> gradually. The image that a viewer sees on television screen is the same image that is precisely being broadcasted.